



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ ایون ٹورنامنٹ کے اٹھویں راونڈ کاتیسرا روز مکمل

- ناردرن کے خلاف سدرن پنجاب کی ٹیم فالو آن کا شکار
- عمر اکمل کی سنچری کی بدولت سنٹرل پنجاب کی میچ میں واپسی

لاہور، 20 نومبر 2019ء:

کے آر ایل اسٹیڈیم راولپنڈی میں ناردرن کے 463 رنز کے جواب میں سدرن پنجاب کی ٹیم پہلی اننگز میں 268 رنز پر ڈھیر ہو کر فالو آن کا شکار ہو گئی ہے۔ مشکلات کا شکار مہمان ٹیم میچ کی دوسری اننگز میں بھی پر اعتماد آغاز نہ کر سکی۔ 41 رنز پر پہلی وکٹ گرنے کے بعد سدرن پنجاب نے دن کے اختتام پر دوسری اننگز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 76 رنز بنالیے ہیں۔ مہمان ٹیم تاحال 119 رنز کے خسارے کا شکار ہے۔ عمر صدیق اور نیشن اشرف بالترتیب 39 اور 21 کے انفرادی اسکور سے کھیل کے آخری روز کا آغاز کریں گے۔ اس سے قبل سدرن پنجاب نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 149 رنز سے کھیل کے تیسرے روز اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا۔ مڈل آرڈر بلے باز پہلی اننگز میں مشکلات کے بہنور میں گھری مہمان ٹیم کو سنبھالا دینے میں ناکام رہے اور پوری ٹیم 268 رنز پر آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ گئی۔ اوپنر عمر صدیق 60 رنز بنا کر ٹاپ اسکور رہے۔ لیگ اسپنر شاداب خان نے 3 اور وقاص احمد نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

دوسری جانب نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری میچ کے تیسرے روز سنٹرل پنجاب نے دوسری اننگز میں سندھ کے خلاف 114 رنز کی برتری حاصل کر لی اور اس کی 8 وکٹیں ابھی باقی ہیں۔ 93 رنز کے خسارے سے دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے عمر اکمل کی سنچری کی بدولت تیسرے روز کھیل کے اختتام پر 2 وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنالیے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے اوپنر سلمان بٹ 81 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ سندھ کے میڈیم پیسر محمد عمر نے 2 وکٹیں حاصل کر لی ہیں۔ اس سے قبل سنٹرل پنجاب کے 246 رنز کے جواب میں سندھ کی ٹیم 339 رنز بنا کر آؤٹ

ہوگئی سندھ کی جانب سے خرم منظور اور جاہد علی کے بعد فواد عالم اور کپتان سرفراز احمد نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ فواد عالم 65 اور سرفراز احمد 58 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سنٹرل پنجاب کی جانب سے فاسٹ باؤلر اعزاز چیمہ نے مسلسل دوسرے میچ کی ایک اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے 81 رنز کے عوض 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بلال آصف نے 4 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk